

کماحقہ فائدہ نہ اٹھایا گیا اب خدا کے فضل و کرم سے روئے زمین پر بسنے والے تمام مسلمانوں میں نئی زندگی و پیداری کا ایک نیا دور شروع ہے۔ اور یقیناً ہر سال حج کے اس بین الاقوامی دینی اجتماع میں اس کا عملی اظہار زیادہ سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے اور اس کے ”منافع“ اپنی تاثیر و افادیت میں وسیع تر ہوتے جا رہے ہیں۔

چند سالوں سے سعودی عرب کی حکومت نے مکہ معظمہ میں رابطۃ العالم الاسلامی قائم کر کے حج کے ”منافع“ میں ایک بڑی مفید چیز کا اضافہ کر دیا ہے۔ اس دفعہ بھی مناسک حج کے فوراً بعد رابطۃ العالم الاسلامی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں تقریباً دنیا کے ہر حصے کے مسلمانوں کے نمائندے شریک ہوئے، اس اجلاس میں مسلمانوں کے مشترکہ مفادات کے مسائل زیر بحث آئے اور ان کے بارے میں کئی قراردادیں منظور کی گئیں۔ اس بین الاقوامی اجتماع کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ کم و بیش ہر مسلمان ملک نیز وہ ملک جہاں مسلمانوں کی قابل ذکر اقلیتیں ہیں، ان کے نمائندے رابطۃ العالم الاسلامی کے اس اجلاس میں موجود تھے اور اس میں جو مسائل زیر بحث آئے۔ ان کے متعلق بڑی دلچسپی لی گئی۔ حج بحیثیت ایک دینی فریضہ کے تو اپنی جگہ ایک مستقل حیثیت رکھتا ہی ہے۔ لیکن آج پوری دنیا بالعموم اور اس دنیا میں بسنے والے مسلمان بالخصوص ایسے دور سے گذر رہے ہیں، جس میں حرکت و عمل ہے۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں مقابلہ ہے، اور باہمی تنازع و کشمکش ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ آج جہاں بھی اس قسم کے بین الاقوامی اجتماع ہوں، ان میں پاکستان کی زیادہ سے زیادہ موثر نمائندگی کی کوشش کی جائے، اور اس کی آواز پوری ذمہ داری سے وہاں پہنچائی جائے۔

ہم ان صفحات میں موتمر عالم اسلامی کے اس اجلاس پر جو سوماہ میں ہوا تھا، تبصرہ کر چکے ہیں۔ گذشتہ مارچ میں انڈونیشیا کے مقام بندونگ میں افریقی ایشیائی اسلامی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں تقریباً ۳۵ مسلمان ملکوں اور غیر مسلم ملکوں کے مسلمانوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور ان کی اصلاح و ترقی کے امور پر غور کیا گیا اور اس بارے میں بعض طریقہ ہائے عمل بھی تجویز کئے گئے۔ کانفرنس نے ایک سفارش یہ کی ہے کہ متحدہ عرب جمہوریہ، انڈونیشیا اور پاکستان کی ایک سٹینڈنگ کمیٹی تشکیل کی جائے، جو اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے فوری مسائل اور اس کے راستے میں جو مشکلات درپیش ہیں، ان کا پتہ